

NOOR
International



Alkur'ani da Hanyar Gyara

Wahayin Ubangiji
Don Gina Al'ummomi
da Dan'adam



noor.gallery



● Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jin qai ●

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾
[النور: ٥٥]

Allah kuwa Ya yi wa waxanda suka yi imani daga cikinku suka kuma yi aiki na gari alqawarin lalle zai sanya su halifofi a bayan qasa kamar yadda Ya sanya waxanda suke gabaninsu halifofi, kuma lalle zai tabbatar musu da addininsu wanda Ya yardar musu, tabbas kuma zai dawo musu da zaman lafiya bayan zamantowarsu cikin tsoro. Su bauta mini, ba sa yin shirkar komai da Ni. Wanda kuwa ya kafirta bayan wannan, to waxannan su ne fasiqai

Alkur'ani (24: 55)

AIKON DIN AIKI - TONA



وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم
مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

[آل عمران : ١٠٣]

Kuma ku yi riqo da igiyar Allah gaba xaya,
kada kuma ku rarraba. Kuma ku tuna ni'imar
Allah da Ya yi muku yayin da kuka zamo
abokan gaban juna sai Ya haxa tsakanin
zukatanku, sai kuka zamo 'yan'uwan juna a
sakamakon ni'imarsa, a da kuma kun kasance
a kan gavar ramon wuta sai Ya tserar da ku
daga gare ta. Kamar haka ne Allah Yake
bayyana muku ayoyinsa don ku shiriya

Alkur'ani (3: 103)

AIKON DIN AIKI - TONA



قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

[النور: ٣٠]

Ka ce da muminaɪ maza su kame
idanuɓansu kuma su kiyaye
farjinsu. Wannan shi ya fi tsarki
a gare su. Lalle Allah Masanin
abin da suke aikatawa ne

Alkur'ani (24: 30)

AIKON DIN AIKI - TONA



وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
 مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

[النور: ٣١]

Kuma ka ce da muminaɗi mata su kame idanuwansu kuma
 su kiyaye farjinsu, kada kuma su fito da adonsu sai dai
 abin da ya bayyana daga gare shi; kuma su sanya
 lulluvinsu a kan wuyan rigunansu; kada kuma su fitar da
 adonsu sai ga mazajensu ko iyayensu ko iyayen mazajensu
 ko 'ya'yansu ko 'ya'yayen mazajensu ko 'yan'uwansu maza
 ko kuma 'ya'yan 'yan'uwansu maza ko 'ya'yan
 'yan'uwansu mata ko kuma mata 'yan'uwansu ko kuma
 bayinsu ko kuma mazaje masu bin su (don neman abinci)
 ba kuma masu buqatar mata ba, ko kuma qananan yara
 waxanda ba su san sha'awar al'aurar mata ba; kada kuma
 su buga qafafuwansu don a gane abin da suka voye na
 adon qafafunsu (watau mundaye). Kuma ku tuba ga Allah
 gaba xayanku ya ku waxannan muminaɗi don ku rabauta

Alkur'ani (24: 31)

AIKON DIN AIKI - TONA



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَى
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ^ق وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

[الأحزاب: ٥٩]

Ya kai wannan Annabi, faxa wa matanka da 'ya'yanka mata da kuma matan mumina (cewa) su sanya lulluvinsu. Wannan shi ya fi sanya wa a gane su, don kada a cuce su. Allah kuma Ya kasance Mai gafara ne, Mai rahama

Alkur'ani (33: 59)

AIKON DIN AIKI - TONA



رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

[النساء: ١٦٥]

Manzanni ne masu albishir
kuma masu gargaxi, domin
kada mutane su sami wata
hujja a wurin Allah bayan
aiko manzannin. Kuma
Allah Ya kasance
Mabuwayi ne, Mai hikima

Alkur'ani (4: 165)

AIKON DIN AIKI - TONA



اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

[الجاثية: ١٢-١٣]

Allah ne wanda Ya hore muku kogi don
jiragen ruwa su riqa gudu a cikinsa da
umarninsa, don kuma ku nema daga
falalarsa don kuma ku gode Ya kuma hore
muku abin da yake cikin sammai da abin
da yake cikin qasa gaba xayansu daga
gare Shi. Lalle a game da wannan tabbas
akwai ayoyi ga mutanen da suke yin

Alkur'ani (45: 12-13)

AIKON DIN AIKI - TONA





NOOR
International

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ
بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

[النساء: ١٥٠ - ١٥١]

Lalle waxanda suke kafirce wa Allah da manzanninsa, kuma suke nufin su nuna bambanci tsakanin Allah da manzanninsa, kuma suna cewa: “Mun yi imani da wasu, mun kuma kafirce wa wasu,” kuma suna son su riqi wani tafarki tsakanin wannan (imani da kafirci) Waxannan su ne kafirai na haqiqa. Kuma Mun yi wa kafirai tanadin wata azaba mai wulaqantarwa

Alkur'ani (4: 150-151)

AIKON DIN AIKI - TONA



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ

ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

[البقرة: ١٧٨]

Ya ku waxanda suka yi imani, an wajaabta muku qisasi dangane da waxanda aka kashe; xa da xa, bawa da bawa, mace da mace. To duk wanda aka yafe masa qisasin xan uwansa, to sai ya bibiye shi ta hanyar da ta dace, shi kuma ya biya diyyar ta hanyar kyautatawa. Wannan (abin da aka ambata), sauqi ne da rahama daga wajen Ubangijinku. Don haka duk wanda ya qetare iyaka bayan haka, to yana da azaba mai raxaxi

Alkur'ani (2: 178)

AIKON DIN AIKI - TONA



إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

[الإسراء: ٩]

Lalle wannan Alqur'anin yana
shiryarwa ne ga (hanya) mafi
miqewa, yana kuma yi wa
muminai waxanda suke yin
kyawawan ayyuka albishir cewa,
lalle suna da lada mai girma

Alkur'ani (17: 9)

AIKON DIN AIKI - TONA



الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ


[إبراهيم: ١]

ALIF LAM RA. Littafi ne da
Muka saukar maka da shi, don
ka fitar da mutane daga duffai
zuwa ga haske, da izinin
Ubangijinsu zuwa ga tafarkin
(Allah) Mabuwayi, Abin godiya

Alkur'ani (18: 1)

AIKON DIN AIKI - TONA





NOOR

International

